



When diarrhoea  
Strikes

# No-Scour

Oral Suspension

جانوروں اور مرغیوں میں پیچش (اسہال)  
کا محفوظ، موثر اور بہترین علاج

Advanced Formulation  
with added

- Streptomycin Sulphate
- Sodium Chloride
- Magnesium Sulphate
- Calcium Gluconate
- Potassium Chloride
- Glycine



 **NAWAN**  
LABORATORIES (PVT.) LTD.

# No-Scour

Oral Suspension

Rapid Relief  
with a difference

**No-Scour** oral most successful treatment in animals including cattle, buffaloes, sheep & goats. It is most effective oral treatment of diarrhoea, it will provide effective control in the treatment of enteritis of bacterial origin.

**No-Scour** oral is the combination of sulphonamide together with an antibiotic ensures the widest possible antibacterial effects. It also contains an antispasmodic to reduce smooth muscle constriction and also remove toxins and provide protection to inflamed mucosa.

## Technical Information:

**Sulphadimidine:** Which is also a sulphonamide group of antibiotic broad spectrum and bacteriostatic action. It has a wide spectrum of activity and cover infectious disease of the digestive and respiratory tract, septicemia, mastitis & metritis.

**Sulphadiazine:** Sulphadiazine belongs to a group of antibiotic called sulphonamides. Inhibit the Gram positive and Gram negative bacteria.

**Streptomycin Sulphate:** It is a water soluble aminoglycoside, also bactericidal antibiotic.

**Neomycin Sulphate:** Broad spectrum antibacterial with activity against Gram positive & Gram negative organisms and great number of actinomycetes which cause by various diseases.

**Sodium Chloride:** Salts sodium & chloride are essential for numerous processes in the body including the regulate of osmotic pressure and acid base balance. Both Sodium & Chloride also play important roles in the digestive and absorption of several nutrients from G.I.T.

**Calcium Gluconate:** Calcium gluconate is the water soluble calcium salt of

gluconic acid. It treats hypocalcemia and conditions in which the physiological effects increase the plasma calcium level are likely to be beneficial to the animal

**Magnesium Sulphate:** Replacement therapy for hypomagnesemia (hypomagnesemia may results in animals for chronic diarrhoea, malabsorption, chronic stress).

**Potassium Chloride:** It is used to prevent or to treat low blood levels of potassium "hypokalaemia".

**Kaolin & Pectin:** Are non absorbable material which bind with other substances on to their surfaces and thus prevent the substances from entering into chemical reactions or from being absorbed into the body.

Kaolin contains colloidal aluminium silicate, which when hydrated forms into a gel. Pectin on the other hand is a complex of polysaccharide and together

with Kaolin is the most potent absorbent with a rapid action and a high capacity of absorption. Both are useful agents for the emergency treatment of poisoning to absorb the toxin.

**Glycine:** The principle function of glycine is as a precursor to proteins.



نو-اسکور اورل سپنشن

### Composition: Each ml contains:

Sulphadimidine	35 mg
Sulphadiazine	36 mg
Streptomycin Sulphate	7.6 mg
Neomycin Sulphate	1.8 mg
Sodium Chloride	11.33 mg
Calcium Gluconate	2.2 mg
Magnesium Sulphate	0.6 mg
Potassium Chloride	3.6 mg
Kaolin	103.33 mg
Pectin	7.1 mg
Glycine	20.9 mg

گوشت: ۱۴ دن دودھ: ۲ دن

**احتیاطیں:** حساس جانوروں میں استعمال سے گریز کریں۔  
ناکارہ جگر والے جانوروں میں استعمال نہ کریں۔  
استعمال سے پہلے بوتل کو اچھی طرح ہلا لیں۔

**ہدایات:** ۳۰ ڈگری سے کم درجہ حرارت پر خشک اور نسبتاً تاریک جگہ پر بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

**پیکنگ:** ۱۰۰ ملی لیٹر اور ۵۰۰ ملی لیٹر میں دستیاب ہے۔

**کلیہ:** انگریزی جسے میں موجود ہے۔

**علامت:** نو-اسکور اورل سپنشن گائے، بھینس، بکری اور اونٹوں میں آنتوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ تمام قسم کی پیچش (اسہال) کا فوری اور مکمل علاج ہے۔ جسم میں نمکیات کی کمی کو فوری پورا کر کے جانوروں کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔

**خوراک اور طریقہ استعمال:** ایک ملی لیٹر برائے ۲ کلوگرام جسمانی وزن کے مطابق۔  
گائے، بھینس: ۱۵۰ ملی لیٹر برائے ۳۰۰ کلوگرام جسمانی وزن کے مطابق۔  
بھینس، بکری: ۱۸ ملی لیٹر برائے ۳۵ کلوگرام جسمانی وزن کے مطابق۔  
پالٹری: ایک ملی لیٹر فی ۲ تا ۳ لیٹر پینے کے پانی میں  
نوٹ: دوائی حسب ضرورت صبح شام دی جاسکتی ہے۔

MANUFACTURED BY:  
**NAWAN**  
LABORATORIES (PVT) LTD.

Animal Health Division  
136-138, Sector 15, Korangi Industrial Area,  
Karachi-Pakistan.